

**The General Manager**  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

Dear Sir

**The Bank of Khyber**  
**Text of Advertisement prior to Publication**

In compliance with the Clause 5.6.9 (b) of Rule Book of the Exchange, please find enclosed herewith text of the advertisement in respect of "Notice of Book Closure for Entitlement of Interim Cash Dividend for the Half Year ended June 30, 2025", to be published in the newspapers i.e. daily "Business Recorder" and the daily "Jang" on August 30, 2025.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Regards,



**Raza Mohsin Qizilbash**  
Company Secretary

## NOTICE OF BOOK CLOSURE FOR ENTITLEMENT OF INTERIM CASH DIVIDEND FOR THE HALF YEAR ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Bank of Khyber (BOK or the Bank) in its 201st meeting held on August 26, 2025 have recommended Interim Cash Dividend at the rate of Rs.1.50/- per share i.e. 15% for the Half Year ended June 30, 2025. To determine the entitlement, the share transfer books of BOK will remain closed from September 08, 2025 to September 10, 2025 (both days inclusive). Transfers received at M/s. THK Associates (Pvt) Limited, the Share Registrar of the Bank, by the close of business on September 05, 2025 will be treated in time for the purposes of the entitlement of cash dividend.

The shareholders are requested to notify any change in their addresses and provide copies of their valid CNIC (if not provided earlier) immediately to the Share Registrar of the Bank M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street-2, D.H.A, Phase VII, Karachi, Pakistan. UAN #: (+92-21) 111-000-322, Fax #: (+92-21) 35310190, Email: sfc@thk.com.pk.

### Dividends to be paid only in bank accounts of the shareholders

Please note that pursuant to the requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividends to the shareholders only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the shareholders. Thus, it has become mandatory for the shareholders to provide their bank account details including the name of their bank, address of bank branch and International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend amount directly into their bank accounts instead of receiving it through physical dividend warrants.

Besides, the above regulations also authorize the bank to withhold payment of dividends in case the shareholders do not provide the above mentioned information. Therefore, the shareholders are requested to provide the Bank Mandate details including International Bank Account Number (IBAN) immediately, if not provided earlier, to their respective CDC Participant / CDC Investor Account Services (in the case where shareholding is in Book Entry Form) or to the Shares Registrar (in the case where shareholding is in Physical Form) at the above mentioned address.

### Unclaimed Dividend and Share Certificates

The Shareholders, who by any reason, could not claim / collect their dividend or share certificates, are advised to contact the Share Registrar of the Bank, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited for the needful.

### Conversion of Physical Shares Certificate into Book Entry Form

In accordance with Sub Section 2 of Section 72 of the Companies Act, 2017, Companies are required "to replace its physical shares with book entry form" in the manner specified by the Commission.

To enable compliance with the aforementioned requirement, we request the shareholders to kindly convert shares held in Physical Form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact a Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service to obtain assistance for opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

For further information or clarification, please feel free to contact THK Associates (Pvt) Limited, Plot No. 32 - C, Jami Commercial Street 2, Phase VII, D.H.A, Karachi, on Tel # 021-35310191-6 or email at sfc@thk.com.pk

### Deduction of Withholding Tax

Please note that withholding tax will be deducted on the basis of latest "Active Taxpayers List" (ATL) available at FBR website as per following rates:

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. Persons appearing in ATL     | : 15% |
| 2. Persons not appearing in ATL | : 30% |

Further, in respect of joint shareholders, tax will be deducted as per their respective ratio / share (if any) intimated by the shareholder to the Bank's Share Registrar, otherwise their shareholding will be treated as equal.

Valid Tax Exemption Certificate is required for claim of Exemption u/s 150 of the Income Tax Ordinance, 2001.

### Zakat Declaration

That pursuant to the Zakat and Ushr Ordinance, 1980 read with the Zakat (Collection and Refund) Rules, 1981, The Bank is required to deduct Zakat from dividend(s) and to deposit the same with the relevant Authority.

To avail an exemption from said deduction, the shareholder(s) are advised to provide a duly executed declaration form i.e. CZ-50, with respect to faith and fiqh,

The Bank of Khyber, in any case, bears no legal responsibility / obligation or any financial liability whatsoever in this regard.

By order of the Board

Raza Mohsin Qizilbash  
Company Secretary

Peshawar  
August 30, 2025

## 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی ششماہی مدت کیلئے عبوری کیش ڈیویڈنڈ کے استحقاق کے لیے بکس کی بندش کا نوٹس

بینک آف خیبر (BOK یا بینک) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 201 ویں اجلاس، منعقدہ 26 اگست 2025 میں 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی ششماہی مدت کے لیے 1.50 روپے فی حصص یعنی 15% عبوری کیش ڈیویڈنڈ کی سفارش کی ہے۔ اس استحقاق کے تعین کے لیے بینک کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 08 ستمبر 2025 سے 10 ستمبر 2025 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ مورخہ 05 ستمبر 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو عبوری کیش ڈیویڈنڈ کے استحقاق کے لیے بروقت تصدیق کیا جائے گا۔

حصص داران سے التماس ہے کہ وہ بینک کے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کرشل سٹریٹ-2، ڈی ایچ ای، فیئر VII، کراچی، پاکستان، یو اے این: 322-000-111 (21-92) (+92-21) 35310190، فیکس: (+92-21) 35310190، ای میل: sfc@thk.com.pk کو فوری طور پر اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع دیں اور اپنے قومی شناختی کارڈ کی نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کی تو) جمع کرائیں۔

### صرف حصص داران کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

براہ کرم نوٹ کریں کہ بینک 1 اگست 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت، کسی بھی سلسلہ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حصص داران کو کیش ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ان بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرے۔ لہذا حصص داران کے لیے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات فراہم کریں، جن میں بینک کا نام، بینک برانچ کا پتہ اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) شامل ہو، تاکہ انہیں فزیکل ڈیویڈنڈ وارنٹس کے ذریعے ادائیگی کی بجائے کیش ڈیویڈنڈ کی رقم براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جائے۔

مزید برآں، مذکورہ بالا ریگولیشنز کے تحت بینک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر حصص داران مطلوبہ معلومات فراہم نہ کریں تو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے۔ لہذا حصص داران سے التماس ہے کہ وہ فوری طور پر بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بشمول بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کریں، (اگر پہلے سے فراہم نہ کی ہو تو)۔ یہ تفصیلات وہ اپنے متعلقہ CDC پارٹنیشن / CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (اگر شیئرز ہولڈنگ بک انٹری فارم میں ہو) یا شیئرز رجسٹرار (اگر شیئرز ہولڈنگ فزیکل فارم میں ہو) کو مذکورہ بالا پتے پر فراہم کریں۔

### غیر رجسٹرڈ ڈیویڈنڈ ز اور شیئرز ٹرانسفر ٹیکس

اپنے حصص داران جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا شیئرز ٹرانسفر ٹیکس وصول / کلیم نہیں کر سکے، کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تفصیلات کیلئے بینک کے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

### فزیکل شیئرز ٹرانسفر ٹیکس کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی ذیلی شق 2 کے مطابق، کمپنیز کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں کمیشن کی طرف سے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق تبدیل کر دینا ہوگی۔ مذکورہ بالا شرائط و ضوابط کی بجا آوری کیلئے ہم حصص داران سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی فزیکل فارم میں رکھے گئے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

ICDS اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیلئے معاونت حاصل کرنے کیلئے حصص داران کسی بروکر، PSX، CDC، پارٹنیشن یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

مزید معلومات یا وضاحت کے لیے براہ کرم ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کرشل سٹریٹ-2، فیئر VII، ڈی ایچ ای، کراچی سے فون نمبر 021-35310191 یا ای میل sfc@thk.com.pk پر رابطہ کریں۔

### دو ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی

براہ کرم نوٹ کریں کہ دو ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی درج ذیل شرح کے مطابق ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین "ایکٹیو ٹیکس میٹر زلسٹ (ATL)" کی بنیاد پر کی جائے گی۔

- 1- ایکٹیو ٹیکس میٹر زلسٹ میں شامل افراد کیلئے: 15 فیصد
- 2- ایکٹیو ٹیکس میٹر زلسٹ میں شامل نہ ہونے والے افراد کیلئے: 30 فیصد

مزید یہ کہ جوائنٹ حصص داران کے سلسلے میں ان کے متعلقہ تناسب (اگر کوئی ہے تو) کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی جس کے بارے میں حصص داران نے بینک کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کیا ہے، بصورت دیگر ان کی شیئرز ہولڈنگ کو مساوی سمجھا جائے گا۔

اگر ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت استثناء کے حکم کیلئے استثناء کا سرٹیفکیٹ درکار ہوگا۔

### ذکوۃ ڈیکلریشن

ذکوۃ اور عشر آرڈیننس 1980 اور ذکوۃ (کمیشن اینڈ ریٹینڈ) رولز 1981 کے تحت، بینک کو ڈیویڈنڈ سے ذکوۃ کی کٹوتی کر کے متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرانا ہوگا۔ اس کٹوتی سے استثناء حاصل کرنے کے لیے حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب اور فقہ کے مطابق مکمل اور تصدیق شدہ ڈیکلریشن فارم (CZ-50) بینک کو فراہم کریں۔

بینک آف خیبر پر اس حوالے سے کوئی قانونی ذمہ داری / مالی ادائیگی یا کسی اور قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

پشاور

30 اگست 2025

رضاحسن قزلباش  
کمپنی سیکریٹری